

Consulting | Training | Web based
Taxation Support Services

TAX TIP OF THE WEEK

All persons bidding at a sale shall be required to declare if they are bidding on their own behalf, or on behalf of their principals and, in the later case, they shall be required to deposit their authority to bid and in default their bid shall be rejected.

QUOTE OF THE WEEK

Those who do not want to imitate anything, produce nothing. **Salvador Dali**

WEEKLY UPDATES (SROs, Circulars etc.)

Income Tax :
SRO 1085(I)/2016 24-Nov-2016

Sales Tax :
No Updates

BUSINESS TERM OF THE WEEK

Synergy

The interaction or cooperation of two or more organizations, substances, or other agents to produce a combined effect greater than the sum of their separate effects.

MEMBERS QUERIES

Question: Dear sir, We are a lifting and transport service providing company registered in SRB under intercity transport services provider HS Code 9836.0000. My query is that we purchase diesel, oil, lubricants from shell Pak, Caltex & PSO and these companies charge us GST on their products at the rate of 17%. Can this amount that we pay in the form of GST be adjusted against what we have to pay to SRB in monthly returns as SST on our services. We would appreciate a detailed reply with references for our knowledge

Answer: Yes, you may claim input tax paid on diesel but upto 13% only. Reference Section 15A(k) of the Sindh Sales tax on services Act, 2011.

Question: Dear Sir, I am working as an Demonstrator (Doctor) under Provincial Govt. My Annual Salary is almost 1 million. Beside this I get a share @25% of the Income from Laboratory which becomes almost 200,000/ this year- Keeping in view of this scenario i want to ask 1. The employer has deducted Tax on Salary on Rs. 1 million and also gave me rebate of 40% (Full time Teacher) But on the amount of Share they have deducted the Tax @ 10% u/s 153(1) (b). is it right practice. or they should deduct the tax u/s 149 with rebate @40% 2. Where should i declare this amount of share in return. please guide the code no. in return. 3. Should i declare the amount of assets of my spouse or dependents in my wealth or Just show the Asset detail.

Answer: 1. This is the right practice.
2. Rs. 200,000/- will be declared under the head income from business.
3. If spouse or dependents are not registered taxpayers, then you'll declare their assets in your wealth statement.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعَذِّبُنِي رَأْيِي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعَكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الذَّنْبِ كَفَّرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Surah Al-i'Imran, Ayat 55

Maulana Muhammad Joona Garhi	جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ! میں تجھے پورا لینے والا ہوں (۱) اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں (۲) اور تیرے تابعداروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیمت کے دن تک (۳) پھر تم سب کالوٹا میری ہی طرف ہے میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کرونگا۔
Maulana Ishaq Madni	(چنانچہ اس کا ایک نمونہ وہ تھا کہ) جب فرمایا اللہ نے (عیسیٰ سے، کہ) اے عیسیٰ میں تم کو پورا پورا واپس لینے والا ہوں، اور تم کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور تم کو پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں (کے گندے اور دل آزار ماحول) سے، جو کہ اڑے ہوئے ہیں اپنے کفر (و باطل) پر، اور تمہارے بیکاروں کو بلا ورت کر کے والا ہوں ان لوگوں کے مقابلے میں، جو کہ اڑے ہوئے ہیں (آپ کے کفر و انکار پر، قیامت کے دن تک، پھر آخر کار تم سب کو (اے لوگو!) لوٹ کر بہر حال میری ہی طرف (اور میرے ہی پاس) آنا ہے، تب میں فیصلہ کرونگا تمہارے درمیان (آخری اور عملی طور پر) ان تمام باتوں کا جن کے بارے میں تم لوگ آپس میں اختلاف کرتے رہے تھے،
Maulana Mahmood ul Hassan Deobandi	جس وقت کہا اللہ نے اے عیسیٰ میں لے لونگا تجھ کو اور اٹھا لونگا اپنی طرف اور پاک کر دونگا تجھ کو کافروں سے اور رکھونگا ان کو جو تیرے تابع ہیں غالب ان لوگوں سے جو انکار کرتے ہیں قیمت کے دن تک پھر میری طرف ہے تم سب کو پھر آنا پھر فیصلہ کرونگا تم میں جس بات میں تم جھگڑتے تھے
Maulana Fateh Muhammad Jalandhri	اس وقت خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تمہیں کافروں (کی صحبت) سے پاک کر دوں گا اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق (وغالب) رکھوں گا پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم میں اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کرونگا چلنے والا ہے
Maulana Ahmad Ali Lahori	جس وقت اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ! بیٹک میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تمہیں کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور جو لوگ تیرے تابعدار ہوں گے انہیں ان لوگوں پر قیامت کے دن تک غالب رکھنے والا ہوں جو تیرے منکر ہیں پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہوگا پھر میں تم میں فیصلہ کروں گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے
Maulana Abul Aala Maududi	(وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی) جب اس نے کہا کہ "اے عیسیٰ! اب میں تجھے واپس لے لوں گا" اور تجھ کو اپنی طرف اٹھاؤں گا اور جنھوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے (یعنی ان کی معیت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے) تجھے پاک کر دوں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنھوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ *۵۲* پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے،
Maulana Abdur Rehman Kilani	(اور وہ اللہ کی تدبیر ہی تھی) جب اس نے عیسیٰ سے فرمایا: "اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا اور ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا اور جو لوگ تیری پیروی کریں گے انہیں تا قیامت ان کافروں [۵۳- الف] پر غالب رکھوں گا اور تم سب کو بالآخر میرے ہی پاس آنا ہے تو میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم [۵۴] اختلاف کر رہے ہو
Maulana Taqi Usmani	When Allah said: :O Isa, I am to take you in full and to raise you towards Myself, and to cleanse you of those who disbelieve, and to place those who follow you above those who disbelieve up to the Day of Doom. Then to Me is your return, whereupon I shall judge between you in that over which you have differed.
Maulana Abdul Majid Daryabadi	Recall what time Allah said: O 'Isa! verily I shall make thee die, and am lifting thee to myself and am purifying thee from those who disbelieve, and shall place those who follow thee above those who disbelieve until the Day of Resurrection; thereafter unto Me shall be the return of you all, then I shall judge between you of that wherein ye were wont to differ.
Sahih International	[Mention] when Allah said, "O Jesus, indeed I will take you and raise you to Myself and purify you from those who disbelieve and make those who follow you [in submission to Allah alone] superior to those who disbelieve until the Day of Resurrection. Then to Me is your return, and I will judge between you concerning that in which you used to differ.

صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر ۲۲۸۳ حدیث مرفوعہ کمرات ۳۲ متفق علیہ ۱۸

عبدالعزیز بن عبداللہ لوی، سلیمان بن بلال، ثور بن زید، ابوالغیث ابوہریرہ بنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لوگوں کا مال اس کے ادا کرنے کی نیت سے لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہے اور جو شخص اس کو ضائع کرنے کی نیت سے لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دیتا ہے۔